

ورک بک - سبق: 25

سوال-1: نیچے دیے گئے الفاظ کے معانی لکھیے:

الْعَظِيمِ

رَبِّي

سُبْحَانَ

--	--	--

سوال-2: اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی سب سے بہترین حالت کون سی ہے؟

جواب:

سوال-3: رکوع کے بعد ”رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ“ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب:

سوال-4: نماز کی ترتیب بتائیے:

<input type="checkbox"/>	2. سلام	<input type="checkbox"/>	1. رکوع
<input type="checkbox"/>	4. قیام	<input type="checkbox"/>	3. تکبیر تحریمہ
<input type="checkbox"/>	6. تشہد	<input type="checkbox"/>	5. سجدہ

ورک بک - سبق: 26

سوال-1: نیچے دیے گئے الفاظ کے معانی لکھیے:

وَالطَّيِّبَاتُ

وَالصَّلَوَاتُ

لِلَّهِ

التَّحِيَّاتُ

--	--	--	--

سوال-2: التَّحِيَّاتُ والی دعائیں صَلَوَاتُ سے کیا مراد ہے؟

جواب:

سوال-3: تشہد میں نبی ﷺ کے لیے ہم کتنی چیزوں کی دعا کرتے ہیں؟

جواب:

سوال-4: تینوں قسم کی عبادتوں کی 3، 3 مثالیں لکھیے:

التَّحِيَّاتُ	الصَّلَوَاتُ	الطَّيِّبَاتُ
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.